

Psychology Life Science Test Easy Mode

Sr	Questions	Answers Choice
1	طاقت کا محرک نہ صرف بنیادی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے بلکہ فراہم کرتا ہے	A. نفسیاتی تشفی B. اخلاقی تشفی C. سائنسی تشفی D. طبعی تشفی
2	عام مشاہدے کے مطابق مرد کھل کر روئے اور جنیبات کا اظہار کرتے ہیں	A. فرانسیسی B. پاکستانی C. امریکی D. انٹین
3	عمومی نفسیات کی قدیم ترین شاخ ہے	A. تعلیمی نفسیات B. کلینیکل نفسیات C. غیر معمولی نفسیات D. تجرباتی نفسیات
4	جان ٹیوی نظریے کے حامل تھے	A. ساختیت B. مکالمیکی C. وظیفیت D. فوبائیس
5	دوسرا بڑا کام دبانو سے متعلق بیجائی اور نفسیاتی افعال سے نمٹتا ہے جس کی بدولت ہم اپنا بلند رکھتے ہیں	A. مورال B. اخلاق C. کردار D. جنبہ
6	نفسیات کردار کا سائنسی طریقوں سے مطالعہ کرتی ہے۔ بقول"	A. واٹسن B. رش C. ای سینک D. ماٹرز
7	:مطالعے کے کس طریقے کو کلینیکل طریقہ کہا جاتا ہے	A. مطالعہ احوال B. سروے C. مشاہداتی D. تجرباتی
8	یہ عصبانی پیغامات کو حرام مغز سے یا دماغ سے عضلات یا غدود تک لے جاتے ہیں کہلاتے ہیں	A. حرکی عصبانیہ B. حسی عصبانیہ C. تلازمی عصبانیہ D. عصبی لہر
9	بہت سی انسانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں	A. ڈپریشن کی وجہ B. دبانو کی وجہ C. احساس کمتری کی وجہ D. کمزوری کی وجہ
10	:خاعی اعصاب کہاں سے نکلتے ہیں	A. کھوپڑی B. دماغ C. حرام مغز D. غدود
11	:سپینر مین نے ذہانت کے کتنے عناصر بتائے	A. پانچ B. سات C. نو D. چار
12	خود کار اعصابی نظام کا بیشتر تعلق جسم کے اعضاء سے ہے	A. اندرونی B. بیرونی C. دماغی D. درمیانی
13	:گن کا کون سا حصہ جسمانی توازن قائم رکھنے کا کام کرتا ہے	A. قافلہ B. نیم دائرہ نالیوں C. طبل گوش D. یوستاکی نالی
14	آلودگی سے پاک صاف ماحول میں دور کی پہاڑیاں بہت نظر آتی ہیں	A. دور B. پاس C. صاف D. بلند
15	:کیٹل نے اپنے نظریہ شخصیت میں اوصاف کی وضاحت کے لئے کون سا طریقہ اختیار کیا	A. عنصری تحلیل B. صف بندی C. مشاورت D. تخیل

16	کان کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں:	A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
17	ذہن ایک حقیقت ہے جب کہ جسم اس کا حصہ ہے	A. عمل B. تفاعل C. افعال D. کردار
18	فعال ہوتا ہے PNS تخفیفی نظام یا	A. آرام کے دوران B. توانائی کو محفوظ کرتا ہے C. دونوں صورتوں میں D. ان میں سے کوئی نہیں
19	روشنی آنکھوں سے نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے اسے روشن کرتی ہے اور اس طرح وہ چیز ہمیں نظر آنے لگتی ہے، یہ خیال تھا	A. لاطینی فلسفیوں کا B. ایرانی فلسفیوں کا C. یونانی فلسفیوں کا D. فرانسیسی فلسفیوں کا
20	معلومات کو قلیل المعیاد حافظے برقرار رکھنے کے لئے مفید ثابت ہوتی ہے	A. تفصیلی دہرائی B. سادہ دہرائی C. مختصر دہرائی D. مشکل دہرائی